

# Psa

## Chapter 146

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1 **הַלְלוּ-יְהוָה** **יְהוָה** **הַלְלוּ** **יְהוָה** **יְהוָה**:  
حمد-کرو- یاہ حمد-کر اے-میری-جان کو- یہوواہ-کی  
[H3068](#) [H0853](#) [H5315](#) [H3050](#)

کر-حمد کی رب جان، میری اے ہو! حمد کی رب

2 **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה**:  
میں-حمد-کروں-گا یہوواہ-کی پ-میری-زندگی-میں میں-گاؤں-گا ل-میرے-خدا-کی جب-تک-میں-ہوں  
[H3068](#) [H2167](#) [H0430](#) [H5750](#)

گا۔ کروں سرائی مدح کی خدا اپنے بھر عمر گا، کروں ستائش کی رب میں جی جیتے

3 **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה**:  
نہ- بھروسہ-کرو پ-امیروں-پر پ-بیٹا- آدم-پر جس-کو-نہیں ل-اُس نجات  
[H0408](#) [H0982](#) [H5081](#) [H0120](#) [H0369](#) [H8668](#)

سکتا۔ دے نہیں نجات جو پر زاد آدم نہ رکھو، نہ بھروسا پر شرفا

4 **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה**:  
نکلتی-ہے اُس-کی-روح وہ-لوٹتا-ہے ل-اُس-کی-مٹی پ-اُس-دن اُسی نابود-ہوتے-ہیں اُس-کے-منصوبے  
[H3318](#) [H7307](#) [H7725](#) [H0127](#) [H3117](#) [H1931](#) [H0006](#) [H6250](#)

ہیں۔ جاتے رہ ادھورے منصوبے کے اُس وقت اُسی ہے، جاتا مل میں خاک دوبارہ وہ تو جائے نکل روح کی اُس جب

5 **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה**:  
مبارک جس-کا-خدا- یعقوب پ-اُس-کی-مدد-میں اُس-کی-امید پ-ر یہوواہ اُس-کا-خدا  
[H0835](#) [H0410](#) [H3290](#) [H5828](#) [H7664](#) [H3068](#) [H0430](#)

ہے۔ رہتا میں انتظار کے خدا اپنے رب جو ہے، خدا کا یعقوب سہارا کا جس وہ ہے مبارک

6 **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה**:  
جو-بناتا-ہے آسمان اور-زمین کو- سمندر اور-کو- سب- جو- پ-اُن-میں جو-رکھتا-ہے سجائی  
[H8064](#) [H0776](#) [H0853](#) [H3220](#) [H0853](#) [H3605](#) [H8104](#) [H0571](#)

ل-عِולָם:

ل-بمیشہ  
[H5769](#)

ہے۔ وفادار تک ہمیشہ وہ ہے۔ بنایا ہے میں اُن کچھ جو اور سمندر زمین، و آسمان نے اُس کیونکہ

7 **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה** **יְהוָה**:  
جو-کرتا-ہے انصاف ل-مظلوموں-کے-لئے جو-دیتا-ہے روٹی ل-بھوکوں-کو یہوواہ آزاد-کرنے-والا قیدیوں-کو  
[H4941](#) [H6231](#) [H5414](#) [H3899](#) [H7457](#) [H3068](#) [H0631](#)

ہے۔ کرتا آزاد کو قیدیوں رب ہے۔ کھلاتا روٹی کو بھوکوں اور کرتا انصاف کا مظلوموں وہ

8	וְהָיָה	פָּקַח	עֲנִיִּים	יְהוָה	זָקַף	כְּפוּפִים	יְהוָה	אָהַב
	یہوواہ	کھولنے-والا	اندھوں-کی-آنکھوں-کو	یہوواہ	اٹھانے-والا	جھکے-بوٹوں-کو	یہوواہ	محبت-کرنے-والا
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H6491</a>	<a href="#">H5787</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H2210</a>	<a href="#">H3721</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0157</a>

צְדִיקִים:

راستبازوں-سے  
[H6662](#)

بے-کرتا پیار کو باز راست رب ہے، کرتا کھڑا اٹھا کو بوٹوں دے میں خاک اور کرتا بحال آنکھیں کی اندھوں رب

9	וְהָיָה	שִׁמְרָה	אֶת-	גְּרִים	יְתוּם	וְאֶלְמָנָה	יְעוֹרֵר	וְהָרָף	רְשָׁעִים	יְעֹזֵב:
	یہوواہ	رکھوالا	کو-	پردیسیوں-کا	یتیم	اور-بیوہ-کو	وہ-سنہالتا-ہے	اور-راہ	شریروں-کی	وہ-ٹیڑھا-کرتا-ہے
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H8104</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1616</a>	<a href="#">H3490</a>	<a href="#">H0490</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H1870</a>	<a href="#">H7563</a>	<a href="#">H5791</a>

دیتا-نہیں ہونے کامیاب کر بنا ٹیڑھا کو راہ کی بے دینوں وہ لیکن ہے۔ رکھتا قائم کو بیواؤں اور یتیموں کرتا، بھال دیکھ کی پردیسیوں رب

10	יְמַלֵּךְ	וְהָיָה	לְעוֹלָם	אֱלֹהֵינוּ	צִיּוֹן	לְרַ	וְדָר	הַלְלוּ-	יְהוָה:
	بادشاہی-کے-گا	یہوواہ	ل-بمیشہ	تیرا-خدا	اے-صیون	ل-نسل	اور-نسل	حمد-کرو-	یہ
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H5769</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H6726</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H1755</a>	<a href="#">H3050</a>	<a href="#">H3050</a>

بو-حمد کی رب گا۔ رہے بادشاہ پشت در پشت خدا تیرا صیون، اے گا۔ کرے حکومت تک ابد رب